

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن کو ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے پلاٹینم درجے کی ISO ڈیٹا سرٹیفیکیشن سے نوازا گیا

برامپٹن پراجیکٹ منیجمنٹ کے لیے وقف عالمی درجے کے شہروں کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن گیا

برامپٹن، آن (17 فروری 2021) – آج، ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا (WCCD) نے اعلان کیا کہ سٹی آف برامپٹن کو ISO 37120 پلاٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن حاصل ہو گئی ہے، جو فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا جمع، شیئر اور استعمال کرنے کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔

محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے علاقے کے MPs کے ہمراہ، WCCD نے سٹی کو 35 ممالک کے 100 سے زائد شہروں کے اپنے عالمی نیٹ ورک میں خوش آمدید کہا، جو WCCD 100 37120 پلاٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن حاصل کر چکے ہیں۔ سٹی نے حکومت کینیڈا کے تعاون یافتہ ڈیٹا فار کینیڈین سٹیٹس پراجیکٹ (DCCP) کے حصے کے طور پر WCCD کے ISO 37120 معیار میں 104 مظہار میں سے 90 سے زائد ظاہر کیے۔

WCCD کے عالمی نیٹ ورک کے رکن کے طور پر، سٹی رہائشیوں کے لیے خدمات اور معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے مقامی تجربات شیئر کرے گا اور پوری دنیا میں ڈیٹا پر مرکوز دیگر شہروں کے ساتھ معیارات کا موازنہ کرے گا۔ WCCD کے عالمی نیٹ ورک کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ، برامپٹن ایک اسمارٹ، قابل استحکام، لچکدار، خوشحال اور مشمول کمیونٹی بنانا جاری رکھنے کے لیے سماجی، معاشی اور ماحولیاتی مظہار کی پیمائش جاری رکھے گا۔

ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا (WCCD) اور سرٹیفیکیشن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [www.dataforcities.org](http://www.dataforcities.org) ملاحظہ کریں۔

### ڈیٹا فار کینیڈین سٹیٹس پراجیکٹ کے بارے میں

پورے کینیڈا میں شہروں کے رہنماؤں کو اعلیٰ معیاری، قابل موازنہ اور آزادانہ طور پر قابل تصدیق میونسپل ڈیٹا سے لیس کرنے والا، ڈیٹا فار کینیڈین سٹیٹس پراجیکٹ ایک کایا پلٹ، تین سالہ، پورے کینیڈا کا پراجیکٹ ہے، جو موجودہ طور پر پورے ملک کی پندرہ ڈیٹا پر مرکوز میونسپلٹیوں میں جاری ہے۔ فیڈرل منسٹری آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی معاونت سے چلنے والا یہ پراجیکٹ نہ صرف سٹی کے رہنماؤں کو وہ ڈیٹا فراہم کرتا ہے جو انہیں اہم فیصلے کرنے کے لیے درکار ہے، مگر ساتھ ہی، یہ اندرونی معیار بندی کو مضبوط بناتا ہے اور پورے کینیڈا میں تیس اور پوری دنیا میں ایک سو شہروں کے ساتھ طاقتور اور متعلقہ موازنے کو ممکن بناتا ہے۔ استحکامیت کی منصوبہ بندی کو مضبوط کرنے سے لے کر معاشی ترقی کو بڑھانے سے لے کر موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کے حصول اور سرمایہ کاری کے اہم فیصلوں کے لیے معلومات فراہم کرنے تک، ڈیٹا فار کینیڈین سٹیٹس پراجیکٹ پورے ملک کے بلدیاتی فیصلہ سازوں کو وہ ضروری ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جو انہیں زیادہ ذہین، قابل استحکام، لچکدار، خوشحال اور مشمول کمیونٹیاں بنانے کے لیے درکار ہے۔

### اقتباسات

"برامپٹن ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر ہے اور ہم ایک ایسی مشمول کمیونٹی بنا رہے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔" ISO 37120 پلاٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن کے حامل 100 سے زائد عالمی شراکت داروں کے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ہم نہ صرف برامپٹن کے رہائشیوں، بلکہ پورے کینیڈا کے لوگوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے مقامی تجربات شیئر کریں گے اور ایک ہی طرح کے ڈیٹا پر مرکوز شہروں سے سیکھیں گے۔ مجھے اس بات پر بے حد فخر ہے کہ برامپٹن کو ہمارے ڈیٹا کے اعلیٰ معیار پر تسلیم کیا گیا ہے اور ذہین، قابل استحکام اور کامیاب کمیونٹیز بنانے کے لیے WCCD پلاٹینم کے درجے کے شہروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، منیر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے رہائشیوں کے لیے مؤثر فیصلے کرنے کے لیے ڈیٹا بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اشتراک اور معیارات پر موازنہ ہمیں ایک محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب شہر بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں سے سیکھنا جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ WCCD کے اعلیٰ عالمی نیٹ ورک کے حصے کے طور پر، اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم شیئر کریں کہ ہم برامپٹن میں کیا جانتے ہیں اور برامپٹن اور پوری کینیڈا میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے شراکت داروں سے سیکھیں۔"

ہم ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے تسلیم کیے جانے پر فخر ہے اور اس موقعے کو اپنی زبردست کمیونٹی میں اپنی استحکامیت کو بہتر کرنے اور معاشی ترقی لانا جاری رکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔"

- برکرات سنگھ، چیئر، کارپوریٹ سروسز؛ سٹی کونسلر، وارڈز 9 اور 10، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں، ہم اپنے رہائشیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ڈیٹا پر مرکوز فیصلہ سازی، مؤثر طور پر بلدیاتی اثاثہ جات کو منتظم کرنے اور اشتراک اور وکالت کے لیے شراکت داریوں کے استعمال کے ذریعے اپنے روزمرہ کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ برامپٹن ایک عالمی رہنماء کے طور پر برقرار ہے، جسے ہماری ISO 37120 پلاٹینم درجے کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے، جو ہمارے شہریوں کے لیے ایک اچھی طرح چلایا جانے والا شہر بننے کی کونسل کی ترجیح کو فروغ دیتا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"تمام کمیونٹیز، چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی، کو جدید عوامی انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور تعمیر کے لیے اچھا ڈیٹا درکار ہوتا ہے۔ عالمی معیارات پر پورا اترنا اہم ہے۔ ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پائلٹ پراجیکٹ کے ذریعے، ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا کے ساتھ شراکت داری میں، ہم اسی مقصد کے لیے پورے کینیڈا میں کئی کمیونٹیز کے بلدیاتی رہنماؤں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ برامپٹن نے میونسپل ڈیٹا کے لیے ISO معیار حاصل کر لیا ہے۔ یہ سٹی کو معیاری ڈیٹا کے ساتھ پراجیکٹس کی منصوبہ بندی میں مدد دے گا اور ٹیوتوں پر مبنی فیصلہ سازی کی رہنمائی کو ممکن بنائے گا۔ کینیڈا کا انفراسٹرکچر پلان ہزاروں پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، پورے ملک میں نوکریاں پیدا کرتا ہے اور مضبوط مشمول کمیونٹیاں بناتا ہے۔"

- محترمہ کیتھرین مک کینا، منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

"ورلڈ کاؤنسل آن سٹی ڈیٹا کی جانب سے، مجھے سٹی آف برامپٹن کو WCCD کی ISO 37120 پلاٹینم سرٹیفیکیشن حاصل کرنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی آپ کے زبردست عملے کی لگن کی گواہی اور ٹیوتوں پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے کونسل کے عزم کی عکاسی ہے۔ خدمات کی بہتر فراہمی سے لے کر معاشی ترقی، منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کار تک جیسے مصارف کے ساتھ، سٹی کا ISO سرٹیفائڈ ڈیٹا برامپٹن کی طاقتوں اور ترقی کے لیے مواقع کو ظاہر کرتا ہے۔ مسٹری آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز اور منسٹر مک کینا کے ساتھ ہماری شراکت داری کے ذریعے، ہم ڈیٹا فار کینیڈین سٹیز پراجیکٹ کے بقیہ سال کے دوران اور اس کے بعد بھی سٹی آف برامپٹن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- ڈاکٹر پیٹریشیا مک کارنی، صدر اور CEO، WCCD

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز

سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)